

Wir sind für Frieden!

In den vergangenen Wochen haben wir gehört, dass einige Angreifer andere Menschen getötet haben und damit den Frieden in Deutschland erheblich gefährden.

Wir fühlen den Schmerz und Verlust mit den Opfern und ihren Familien.

Wir möchten Ihnen, unseren Gastgebern, sagen, dass diese Menschen, die angeblich im Namen Allahs töten, weder den Islam noch eine andere Religion vertreten.

Diese Terroristen sind nicht mehr als unmenschliche Mörder.

Wir wollen Frieden in Deutschland und der ganzen Welt!

Wir kamen nach Deutschland, weil wir bei uns zu Hause in Gefahr waren.

Wir würden auch Ihnen helfen, wenn Sie in Gefahr wären.

Wir schätzen sehr, wie Sie, unsere Gastgeber, uns geholfen und für uns gesorgt haben und wir möchten Ihnen die gleiche Hilfe und Liebe zurück geben.



In the recent weeks we heard that some attackers have killed others, thus endangering the peace in Germany. We are feeling the pain and the loss of the victims and their families. We want to tell you the people who are doing this say they are killing in the name of Allah, but they don't represent Islam or any religion. These attackers are just inhuman killers. We want peace in Germany and the whole world. We came to Germany because we were in danger at home. We would also help you if you were in danger. We appreciate how you have been helping us and caring for us and want to give you the same help and love in return.

Dr. Mudoos
 Ramad Jutt
 Amad Shazad
 Zameer Ashroz
 DABU
 17/02/2015

پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ کچھ حملے اور دوسرے لوگوں
 کا قتل کر کے جبراً ہی کا سکون تباہ کر رہے ہیں
 ہم ان لوگوں کے لیے درد محسوس کر رہے ہیں جن کی
 موت ہوئی اور ان کے فیملی کے لیے بھی۔

ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کر رہے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر قتل کر رہے ہیں
 ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کسی

مذہب سے۔ یہ حملے اور صرف غیر انسانی قاتل ہیں

ہم جبراً ہی ہیں اور پوری دنیا میں سکون چاہتے

ہیں۔ ہم جبراً ہی آتے ہیں کیونکہ ہم اپنے گھروں

میں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم بھی آپ کی مدد کرنے اگر

آپ خطرے میں ہوتے ہیں آپ کی قدر کرتے ہیں جیسے

آپ نے ہماری مدد اور دیکھ کر دیکھ کر رہے ہیں اور

چاہتے ہیں آپ ہم سے پیار اور مدد کرتے ہیں آپ

کو اسی طرح کریں۔

Qadeer Sultan